

"مجادل" مجری کی جمع ہے، اور یہ اس تارے کا نام ہے جس کے بارے میں عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ بارش اسی سے مانگی جاتی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی لفتحو کے ذریعے عرب کے اس غلط عقیدے کی تردید فرمائی، اور یہ واضح کیا کہ انہوں نے بارش نازل ہونے کا حقیقی باعث بننے والے ذریعے کو اپنا کر بارش طلب کی ہے، اور وہ ہے استغفار تاکہ تاروں کی تاثیر۔

ایک شخص نے حسن بصری رحمہ اللہ کو خشک سالی کی شکایت کی تو حسن بصری رحمہ اللہ نے انہیں کہا: "اللہ سے استغفار کرو"
دوسرے شخص نے حسن بصری رحمہ اللہ کو تنگ دستی کی شکایت کی تو حسن بصری رحمہ اللہ نے انہیں کہا: "اللہ سے استغفار کرو"
تیسرے شخص نے حسن بصری رحمہ اللہ سے اولاد کیلئے دعا کی درخواست کی تو حسن بصری رحمہ اللہ نے انہیں کہا: "اللہ سے استغفار کرو"
چوتھے شخص نے حسن بصری رحمہ اللہ کو اپنے باغ کے خشک ہو جانے کی شکایت کی تو حسن بصری رحمہ اللہ نے انہیں بھی کہا: "اللہ سے استغفار کرو"
تو ہم نے ان سے سب کو یکساں جواب دینے کے بارے میں استفسار کیا! تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا: "میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْغَافِرِينَ أَزْمَانًا مَّا كَانَ غَفَارًا [10] يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا [11] وَيُمْزِقُ فَايَاتِهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ فَمَا يَسْمَعُونَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السُّبْحَاتُ كَالسَّمَانِ إِذَا هُم مُّطْرًا﴾۔
ترجمہ: چنانچہ میں [نوح] نے ان سے کہا: تم اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، بیشک وہ بخشنے والا ہے۔ [10] وہ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ [11] اور تمہاری مال و اولاد کے ذریعے مدد کریگا، اور تمہارے لیے باغات و نہریں بنا دے گا۔ [نوح: 10-12]" انتہی مختصراً
تفسیر قرطبی: (303-301/18)

دوم:

استغفار کے لئے وارد الفاظ کے بارے میں یہ ہے کہ: سب سے افضل ترین الفاظ وہ ہیں جو صحیح احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کہ آپ وہ الفاظ خود کہا کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ الفاظ کہنے کی ترغیب دلائی، جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

1- شاد بن اوس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: «سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو: **اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، غَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَمْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَلَفْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَلْبُؤُكَ بِمَعْيَتِكَ عَلِيًّا، وَأَلْبُؤُكَ بِذُنُوبِي فَاعْفُزْ بِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ**» [یعنی: یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اور میرا تیرا بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد و پیمانہ پر قائم ہوں، میں اپنے کیے ہوئے اعمال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میرے تیرے سامنے تیری مجھ پر ہونیوالی نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، ایسے ہی اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، لہذا مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے] آپ نے فرمایا: جس شخص نے کامل یقین کے ساتھ دن کے وقت کہا، اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اسکی موت ہوگئی، تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا، اور جس شخص نے اسے رات کے وقت کامل یقین کے ساتھ اسے پڑھا اور صبح ہونے سے قبل ہی فوت ہو گیا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ بخاری: (5947)

2- ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعائیہ الفاظ کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے: «**اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَبِحَبْلِي، وَلَا تُسْرِئْ لِي أَمْرِي كَلِمَةً، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمَلِي وَبِحَبْلِي، وَكُلُّ ذَنْبِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدْ مَنَنْتَ وَمَا أَحْرَمْتَ، وَمَا أَسْرَزْتَ وَمَا أَعْلَنْتَ، أَنْتَ الْغَفُورُ وَأَنْتَ الْكَرِيمُ، وَأَنْتَ عَلِيٌّ كَلِمَةً قَهْرِيَّةً**» [یعنی: پروردگار! میری خطائیں، جہالت، اور اپنے بارے میں لاپرواہی ساری کی ساری معاف فرما دے، اور وہ بھی معاف کر دے جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، یا اللہ! میری خطائیں بخش دے جو میں نے عدا کی ہیں یا جہالت کی وجہ سے کی ہیں، یا مذاق میں کی ہیں، اور وہ سب کچھ جو میرے کھاتے میں موجود ہے، یا اللہ! میرے اگلے، پچھلے، خفیہ، اعلانیہ سب گناہ معاف فرما دے، تو ہی آگے بڑھانے والا، اور پیچھے کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے] بخاری: (6035)، مسلم: (2719)

3- ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجلس میں "زب اغفر لی وثبت علیٰ انک انت الثواب الرحیم" [یعنی: پروردگار مجھے بخش دے، اور میری توبہ قبول فرما، بیشک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، اور نہایت رحم کرنے والا ہے] کا ورد سوار تک شمار کرتے تھے "ترمذی: (3434) لیکن اس میں یہ الفاظ ہیں: "الثَّوَابُ الْغَفُورُ"، ابو داؤد (1516) اور ابن ماجہ: (3814) نے اسے روایت کیا ہے۔

4- ابویسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (جو شخص "اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ نُحْيِي الْقِيَوْمَ وَ اُتُوْبُ اِلَيْهِ" [یعنی: میں عظمت والے اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی ہمیشہ سے زندہ اور قائم رہنے والی ذات ہے، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں] کہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ میدان جہاد کا بھگڑا ہی کیوں نہ ہو) ترمذی: (3577) اور ابو داؤد (1517) نے اسے روایت کیا ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ترمذی میں صحیح کہا ہے۔

5- ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: "مجھے آپ کوئی دعا سکھا دیں، جسے میں اپنی نماز میں مانگا کروں" تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کہو: «اللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَظَمْتُ نَفْسِيْ عَلٰمًا كَثِيْرًا اَوْ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَاَزْهِدْ لِيْ اَنْفُسَ الْغَفُوْرِ الرَّحِيْمِ» [یعنی: یا اللہ! میں نے اپنی جان پر بہت ظلم ڈھائے، اور تیری سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، لہذا تو مجھے اپنے پاس سے بخشش عطا فرما، اور مجھ پر رحم فرما، بیشک تو بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے] بخاری: (799)، مسلم: (2705)

واللہ اعلم.